

# خطرات کی تاریخ

تعارف: کمیونٹی کے مقام کی وجہ سے بعض خطرات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ڈرائیکل جزیرے پر رہنے والے لوگوں کو آرکٹک کے برفانی طوفان کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں سونامی کے خطرات کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کا خطرے کی سنگینی کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ آپ خطرات کے لیے تیاری کے لیے مناسب کارروائی کر سکیں اور ان کے اثرات کو تباہی میں تبدیل ہونے سے روک سکیں۔ چونکہ مقامی کمیونٹیز میں بعض خطرات باقاعدگی سے رونما ہو سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں تیاری کرنے کے طریقے کے بارے میں مقامی معلومات حاصل ہوں۔ ان کی مقامی معلومات اور تیاری کی تراکیب مقامی آفات کے خطرات کے انتظام میں مدد اور ان کی مشق کرنے کے لیے اہم ہیں۔

## تباہی کا خطرہ کم کرنے کی سرگرمیاں

### درکار وقت

30 منٹ - 1 گھنٹہ

### دشواری کی سطح

آسان

### درکار وسائل

پنسل، کاغذ

## مرحلہ نمبر 1

- اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں باقاعدگی سے کون سے خطرات لاحق ہوتے ہیں؟

## مرحلہ نمبر 2

- اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنی کمیونٹی کے بزرگوں سے بات کریں کہ آپ کے علاقے کو کن خطرات کا سامنا ہے۔ ان کی اجازت کے ساتھ، آپ اچھی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کی کہانی کو لکھنا یا ریکارڈ کرنا چاہیں گے۔ آپ کی کمیونٹی تیاری کے لیے کیا کرتی ہے؟ کیا کوئی خطرہ آفت میں بدلا اور اگر ایسا ہے تو آپ کی کمیونٹی نے اس کے دوران کیسا ردعمل دیا اور اس آفت سے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو کیا انہیں کمیونٹی میں کسی قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا آپ کی کمیونٹی کو جو خطرات درپیش تھے وہ اس سے مختلف ہیں جو آج کے دور میں ہیں؟ اپنی کمیونٹی کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ان کے تجربات کے بارے میں دریافت کریں۔

## مرحلہ نمبر 3

- اس بارے میں سوچیں کہ آپ ان کی کہانی اپنے ساتھیوں یا نوجوان نسلوں کے ساتھ کس طرح شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی کمیونٹی خطرات کی تیاری کی آپ کی مقامی روایات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔

